



آئی جی آئی لائف-WTO

زندگی پر بیمہ تکافل سیونگ پلان

پاکستان کی پہلی ایکٹو فیملی تکافل

دعویٰ دستبرداری: آئی جی آئی لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے تحت پروڈکٹ کے حوالے سے تحریر کیا جا رہا ہے۔ یہ بینک الفلاح لمیٹڈ سے گارنٹی شدہ نہیں ہے، اس کی کسی سے وابستگی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بینک الفلاح کا پروڈکٹ ہے۔ لہذا، آئی جی آئی لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز وقف فنڈ کے ذریعے تمام انڈر رائٹنگ خطرات کا ذمہ دار ہے۔ درخواست گزار/شریک تکافل اس بات کا مکمل اقرار کرتا اور سمجھتا ہے کہ بینک الفلاح آئی جی آئی لائف ونڈو تکافل آپریشنز کے لیے کارپوریٹ تکافل ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور کسی بھی صورت میں زندگی پر بیمہ تکافل پلان، ریگولر زرتعاون پروڈکٹ اور/یا اس سے پیدا ہونے والا کوئی بھی فائدے یا نقصان سے متعلق آئی جی آئی لائف ونڈو تکافل آپریشنز کی جانب سے کئے گئے اقرارنامے کے تحت اور/یا نمائندگی کے لیے ذمہ دار یا جواب دہ نہیں ہوگا۔ کیا درخواست گزار/شریک تکافل زندگی پر بیمہ تکافل سیونگ پلان۔ ریگولر زرتعاون پروڈکٹ کو سبسکرائب کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس کی/اس کے رسک پر رضا کارانہ طور پر ایسا کر سکے گی/کر سکے گا اور فنڈ کی سرمایہ کاری کی کارکردگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی بھی تنازعات اور یا کلیم کی صورت میں بینک الفلاح ذمہ دار یا جواب دہ نہیں ہوگا جو کہ درخواست گزار/شریک تکافل اور/یا کوئی بھی دیگر وجوہات سے حاصل زرتعاون پر مشتمل ہے۔ پلان میں شامل، زرتعاون مذکورہ بالا فنڈ پر انویسٹ کیا گیا ہے اور ضروری نہیں ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی پر اثر انداز ہو۔ کی جانے والی پیش گوئی ضروری نہیں مستقبل یافتہ کی ممکنہ کارکردگی کے لیے پڑا اثر ثابت ہوا اور نہ ہی آئی جی آئی لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز یا بینک الفلاح اس کے لیے ذمہ دار ہونگے۔ تکافل رکنیت سے متعلق تمام کلیم، چارجز اور ادائیگیاں صرف اور صرف آئی جی آئی لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز کی خصوصی ذمہ داری ہے۔ تاہم، سروس چارجز اور ٹیکس متعلقہ حکام کے ذریعے بینک کے ”چارجز کے شیڈول“ اور ٹیکس کے قوانین کے مطابق لاگو ہونگے۔ آئی جی آئی لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز آپ کی منتخب کردہ حکمت عملی کے مطابق سرمایہ کاری کرتی ہے اور آپ کے ممبر شپ اکاؤنٹ کی ویلیوز آپ کی منتخب کردہ حکمت عملی کی کارکردگی کی عکاسی کرتی ہے۔ سرمایہ کاری اکاؤنٹ کی آمدنی میں اتار چڑھاؤ یا کمی واقع ہو سکتی ہے اور اصولی، سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اصل پلان کی مدت کی تکمیل یا انداز اُبتائے گئے منافع کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور یہ متوقع اعداد و شمار سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ، انویسٹمنٹ رسک شریک تکافل کی جانب سے برداشت کیا جائے گا۔



آئی جی آئی لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز: ساتویں منزل، دی فورم، سوئٹ نمبر 703-701، بلاک 9، خیابان جامی کلفٹن، کراچی۔ 75600، پاکستان۔

UAN: 111-111-711 (+92-21) ٹیلی فون: 35360040 (+92-21) فیکس: 35290042 (+92-21)

ای میل: vitality@igi.com.pk ویب: www.igilife.com.pk

اہم اطلاع: پاکستان میں آئی جی آئی ونڈو تکافل سرمایہ کاری کی کارکردگی کی ڈسکوری ونڈو تکافل پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ شراکت داری میں پیش کی جا رہی ہیں۔

یہ ساؤتھ افریقہ میں مجاز کردہ فنانشیل سروسز ہیں اور اس کا رجسٹریشن نمبر 1999/007736/07 ہے۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

”تمام خوشیوں کی بنیاد اچھی صحت ہے“۔ Leigh Hunt

صحت مندر بننے کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، لیکن ہم میں سے بیشتر کو اس خواہش کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آئی جی آئی لائف۔ ونڈو تکفل آپریشنز نے آپ کو صحت مند بنانے کے لیے جنوبی افریقہ میں قائم وائٹلیٹی سے وابستگی قائم کی ہے۔ ہمارا زندگی پریمیر تکفل سیونگ پلان نہ صرف آپ کے مالی مستقبل کو تحفظ فراہم کرے گا، بلکہ یہ مربوط وائٹلیٹی پروگرام کے ذریعے آپ کو صحت مندر بننے کے لیے بھی انعام دیتا ہے۔

ہم آپ کو دنیا بھر میں موجود 8.9 ملین سے زائد میروں کی فہرست میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحت مند بنانے، اسے بڑھانے اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے وائٹلیٹی استعمال کرتے ہیں۔

آئی جی آئی لائف WTO زندگی پریمیر تکفل سیونگ پلان

زندگی پریمیر تکفل سیونگ پلان ایک عمدہ سرمایہ کاری پلان ہے جو کہ وائٹلیٹی کے تندرستی پروگرام سے منسلک ہے۔ یہ باہمی اقدار تکفل ماڈل پر مبنی ہے۔ یہ پلان آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی طرف مائل کرتا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کو پرکشش انعامات بھی پیش کرتا ہے۔

یہ پلان دو بنیادی پہلوؤں پر مشتمل ہے:

وائٹلیٹی: یہ آپ کی موجودہ صحت کی صورت حال کو سمجھتے ہوئے تندرستی پر توجہ دیتی ہے اور صحت میں بہتری لانے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

تکفل تحفظ: آپ کے مالی تحفظ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور سرمایہ کاری مواقع فراہم کرتا ہے۔

تکفل کیا ہے؟

تکفل ایکنچر رینل سائنس کے جدید تصورات پر مبنی باہمی تعاون اور مدد فراہم کرنے کا قدیم اسلامی تصور ہے۔ جس کے لیے شرعی مشیر کی نگرانی میں انڈر رائٹنگ اور سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ یہ شریعت کے مطابق وفات یا معذوری کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

فری لک دورانیہ

اگر آپ شریک تکفل کے دستاویز کی وصولی کی تاریخ سے 14 روز کے فری لک دورانیہ میں اپنی رکنیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا زر تعاون مکمل واپس کر دیا جائے گا۔ واپس کی گئی رقم میں سے آئی جی آئی لائف ونڈو تکفل آپریشنز کی طرف سے کئے جانے والے آپ کے علاج یا طبی معائنہ سے منسلک اخراجات اگر کوئی ہیں وہ منہا کئے جائیں گے۔

آئی جی آئی ونڈو تکفل آپریشنز وائٹلیٹی دوسری روایتی فیملی تکفل سے کس طرح مختلف ہے؟

آئی جی آئی لائف WTO زندگی پریمیر تکفل سیونگ پلان	دیگر روایتی فیملی تکفل
مختلف تکفل پلان + صحت مند اور چست طرز زندگی	ایک جیسی پروڈکٹس (فیملی تکفل ممبر شپ)
طویل المدت سرمایہ کاری + ہفتہ وار بنیاد پر ایکٹو لائف اسٹائل کے انعامات + ویریل ڈیوائس پر 100 فیصد تک کیش بیک * + سالانہ انعامات *	طویل المدت سرمایہ کاری، کوئی مختصر المدت فوائد نہیں
شریک تکفل کی فیملی کے مستقبل کا تحفظ + شریک تکفل کا بہتر صحت مند اور چست طرز زندگی	شریک تکفل کی فیملی کے مستقبل کا تحفظ
Mobile-led / سٹریٹیجی، IGI لائف وائٹلیٹی ایپلی کیشن ڈیوائس کے ساتھ منسلک ہے۔	موبائل ایپلی کیشن صرف ممبر شپ کی تفصیلات اور عام معلومات فراہم کرتی ہے
بذریعہ وائٹلیٹی ہیلتھ چیک اسکریننگ اسسمٹ سے صحت پر توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے + وائٹلیٹی ہیلتھ ریویو + وائٹلیٹی نیوٹریشن اسسمٹ + نان اسموکر ڈیلکریشن (NSD) + وائٹلیٹی ایج	صحت پر توجہ مرکوز نہیں کی جاتی
ہفتہ وار سرگرمیوں کے سبب، آپ کا تعلق IGI لائف کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر رہتا ہے۔	صرف سالانہ لین دین کے سبب آپ کا پروڈکٹ کے ساتھ تعلق واجبی رہتا ہے
صحت مند اور چست و توانا زندگی پر توجہ	وفات کے خوف، مریض / جسمانی نقص پر توجہ

* شرائط وضوابط لاگو ہیں۔

** آپ کو تجویز کیا جاتا ہے کہ ڈیوائس ہمیشہ پہن کر رکھیں لیکن آپ کا موبائل بھی آپ کی جسمانی سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس اینڈرائڈ کی صورت میں ویریل ڈیوائس ہیلتھ ایپ اور iOS کی صورت میں ہیلتھ ایپ موجود ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے 111-111-711 (+92-21)UAN پر رابطہ کریں۔ شرائط وضوابط لاگو ہیں۔

موبائل فون کے زیر انتظام حکمت عملی

یہ پروگرام شیئرڈ ویلیو پر مبنی ہے جو آپ کو اچھی صحت برقرار رکھنے پر انعامات اور فوائد دیتا ہے۔ یہ آپ کو تین اہم نکات پر مبنی صحت مند طرز زندگی کے لیے طریقہ کار، معلومات اور حوصلہ افزائی دیتا ہے۔

- اپنی صحت کے بارے میں جانیں
- اپنی صحت بہتر بنائیں
- فوائد سے لطف اندوز ہوں

IGI لانف وائٹیلٹی ایپ کے ذریعے آپ اپنی جسمانی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے فٹنس کے اہداف حاصل کرتے ہیں اور ان اہداف کے حصول پر انعامات کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں۔ آپ IGI لانف وائٹیلٹی ایپ کو اپنے اینڈرائڈ یا iOS موبائل ڈیوائس * پر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا ID اور پاس ورڈ استعمال کرتے ہوئے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو کافل رکنیت میں شمولیت کے بعد ویلکم ای میل میں فراہم کیا جائے گا۔



1۔ اپنی صحت کے بارے میں جانیں

- وائٹیلٹی ہیلتھ چیک (VHC)
- وائٹیلٹی ہیلتھ ریویو (VHR)
- وائٹیلٹی نیوٹریشن اسسمنٹ (VNA)
- نان اسموکر ڈیٹیکشن (NSD)
- وائٹیلٹی اینج (VA)

3۔ فوائد سے لطف اندوز ہوں

- ہفتہ وار انعامات / فوائد

ایزی کٹس موبائل ری چارج

فوڈ پاؤڈر

- مہما بنے فوائد

ویریبل ڈیوائس * پر 100 فیصد تک کیش بیک

- سالانہ فوائد

مکمل فوائد ***

* شرائط و ضوابط لاگو ہیں *** شرائط و ضوابط سے متعلق ”سالانہ فوائد (مکمل فوائد)“ میں درج ہے۔

اپنی صحت کے بارے میں جانیں

اس حصے اپنی صحت کے بارے میں جانیں کے ذریعے آپ ان خطرات کے بارے میں جان سکتے ہیں جو آپ کی صحت کو لاحق ہیں یا لاحق ہو سکتے ہیں۔

وائٹیلٹی ہیلتھ چیک (VHC)

وائٹیلٹی ہیلتھ چیک تحفظ کے لیے اہم بنیادی صحت کے ٹیسٹ اور اسکریننگ کا ایک سیٹ ہے جیسے باڈی ماس انڈیکس (بی ایم آئی)، بلڈ گلوکوز، بلڈ پریشر اور ٹوٹل کولیسٹرول وغیرہ۔

وائٹیلٹی ہیلتھ ریویو (VHR)

وائٹیلٹی ہیلتھ عمومی صحت، معاشرتی طرز زندگی کی، سوشل اور لانف اسٹائل کی عادات کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

وائٹیلٹی نیوٹریشن اسسمنٹ (VNA)

وائٹیلٹی نیوٹریشن اسسمنٹ سوالنامہ مندرجہ ذیل تین سیکشن پر مبنی ہے۔

- روزمرہ کا کھانا

آپ کا روزمرہ کا کھانا کیا ہے اور اس کھانے کی ترتیب کیا ہے؟

- طرز زندگی کا انتخاب

آپ کے طرز زندگی کی کوئی عادات ایسی ہیں جو آپ کے کھانے پینے کے انتخاب پر اثر انداز ہوتی ہیں؟

- کھانے پینے کی چوائس

غذائیت اور اجزاء کے لحاظ سے آپ کے کھانے کی ترجیحات کیا ہیں؟

اس سوالنامے کو مکمل کرنے کے بعد، آپ کو اپنے کھانے پینے کی عادات میں بہتر غذائیت کے استعمال کے مشورے دیئے جائیں گے۔

نان۔ اسموکر ڈیٹیکشن (NSD)

نان اسموکر کے پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ شرائط و ضوابط میں درج نکات کے عین مطابق تمباکو پر مبنی پروڈکٹس کا استعمال نہ کرتے ہوں۔

Vitality Age (وائٹیلٹی عمر)

آپ کی وائٹیلٹی عمر دراصل آپ کی صحت کا مجموعی جائزہ لینے کے بعد واضح کی جائے گی، لازمی نہیں ہے کہ آپ کی وائٹیلٹی عمر آپ کی طبعی عمر سے مطابقت رکھتی ہو۔

* ٹیسٹ کے اصل نتائج پہلی کیشن کے ذریعے اپ لوڈ کیے جاتے ہیں۔

اپنی صحت بہتر بنائیں

یہ حصہ آپ کو جسمانی سرگرمیوں تک رسائی مہیا کرتے ہوئے صحت کو بہتر بنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپ کی موجودہ طبی صورتحال کے مطابق، آپ کو ہفتہ وار جسمانی سرگرمیوں کے ہدف مہیا کیے جائیں گے اور بعد ازاں اُن سرگرمیوں کو پورا کرنے پر آپ کو انعام دیا جائے گا۔ *

ہم آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنی جسمانی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے wearable ڈیوائس کا انتخاب کریں جس میں پہلے سے پیڈومیٹر اور ہارٹ ریٹ مانیٹر موجود ہوتا ہے۔ براہ مہربانی آپ صرف اسی ڈیوائس کا انتخاب کریں جس کی نشاندہی شرائط و ضوابط میں درج ہے۔



**مزید تفصیلات کے لیے ہمارے 111-111-711UAN (+92-21) پر رابطہ کریں۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

**آپ کا موبائل ویریبل ڈیوائس ہیلتھ ایپ (جو کہ اینڈرائڈ پر دستیاب ہے) اور ہیلتھ ایپ (جو کہ iOS پر دستیاب ہے) کے ذریعے آپ کی جسمانی سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے۔

انعامات سے لطف اندوز ہوں

IGI لائف وائیٹلیٹی ہفتہ وار اور سالانہ انعامات / فوائد کے ذریعے آپ کو ایک صحت مند طرز زندگی گزارنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

• ہفتہ وار انعامات

اپنا ہفتہ وار جسمانی سرگرمی کا ہدف حاصل کریں اور 500 روپے قیمت کا موبائل ٹاپ اپ واؤچر منتخب کریں یا فوڈ پانڈا کا 500 روپے ڈسکاؤنٹ واؤچر حاصل کریں۔

دونوں واؤچرز آئی جی آئی لائف وائیٹلیٹی ایپلیکیشن پر دستیاب ہیں۔

• ماہانہ انعامات

ویریبل ڈیوائس پر 100 فیصد تک کالکیشن بیک۔

• سالانہ انعام (Integrated Benefit)

آپ اپنے وائیٹلیٹی ایٹنس کی بنیاد پر ہر ممبر شپ کے سال کی تکمیل پر جمع شدہ انعام کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ فوائد ہر سال جمع ہوتے ہیں اور ممبر شپ کی پانچویں سالگرہ پر آپ کے اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیئے جاتے ہیں۔




*شرائط و ضوابط لاگو ہیں

سالانہ وائٹیلیٹی اسٹیٹس

اپنی صحت کی موجودہ صورتحال جاننے کے لیے آپ وائٹیلیٹی پوائنٹس کمائیں اور اپنی صحت کو مزید بہتر بنانے کی جانب قدم بڑھائیں۔

آپ جیسے جیسے پوائنٹس کماتے جاتے ہیں، آپ بہتر وائٹیلیٹی اسٹیٹس حاصل کرتے جاتے ہیں۔




ہیلتھ اسکریننگ کے ذریعے وائٹیلیٹی پوائنٹس حاصل کریں۔

اپنی صحت کے بارے میں جانیں	پوائنٹس	60+ پربونس پوائنٹس	پوائنٹس ایلوکیشن کی تعداد	پوائنٹس کی حد (رکنیت کا ہر سال)
وائٹیلیٹی ہیلتھ ریویو	1,000	0	سالانہ	1,000
وائٹیلیٹی نیوٹریشن اسسمٹ	500	0	سالانہ	500
ٹائن اسموکر ڈیٹیکٹریشن	1,000	0	سالانہ	1,000
اسکریننگ اینڈ پریوینشن	وائٹیلیٹی ہیلتھ چیک	ہر حصے میں 1,250 صحت مندی کے زمرے میں ہونے کے لیے 2,500	صحت مندی کے زمرے میں ہونے کے لیے ہر حصے 1,250	15,000 - under 60 20,000 - over 60

ٹوٹل وائٹیلیٹی پوائنٹس

* آپ 2,500 پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے وائٹیلیٹی ہیلتھ چیک ٹیسٹ صحت مندی کے زمرے میں آتے ہوں۔


جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے وائٹیلیٹی پوائنٹس حاصل کریں



دل کی دھڑکن * دورانیہ اور دل کی دھڑکن	دورانیہ اور دل کی دھڑکن	دورانیہ اور دل کی دھڑکن	دورانیہ اور دل کی دھڑکن	دورانیہ اور دل کی دھڑکن
اعتدال میں (60+)	عمر کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 60 فیصد کی حد تک شرح رفتار قلب کی حاصل 20 منٹ کی جسمانی سرگرمی	0	50 Booster points	Over 60 years of age
اعتدال	عمر کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 60 فیصد کی حد تک شرح رفتار قلب کی حاصل 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی	100	50 Booster points	Over 60 years of age
تخت ورزش	عمر کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 70 فیصد کی حد تک شرح رفتار قلب کی حاصل 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی	200	50 Booster points	Over 60 years of age
تخت ورزش	عمر کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 60 فیصد کی حد تک شرح رفتار قلب کی حاصل 60 منٹ کی جسمانی سرگرمی	200	50 Booster points	Over 60 years of age
زیادہ دورانیہ کی تخت ورزش	عمر کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 70 فیصد کی حد تک شرح رفتار قلب کی حاصل 60 منٹ سے زائد کی جسمانی سرگرمی	300	50 Booster points	Over 60 years of age
تخت ورزش	عمر کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 60 فیصد کی حد تک شرح رفتار قلب کی حاصل 90 منٹ سے زائد کی جسمانی سرگرمی	300	50 Booster points	Over 60 years of age

ویز ایبل ڈیوائس کیش بیک


آپ کے ماہانہ آئی جی آئی لائف وائٹیلیٹی پوائنٹس کا مارگٹ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو پر ماہ کتنی جسمانی سرگرمی کی ضرورت ہے۔ اپنے ماہانہ پوائنٹس کے ہدف کو حاصل کریں اور پروگرام کے ذریعے ویریل ڈیوائس پر قابل اطلاق فیصد کیش بیک حاصل کریں۔



آپ 24 ماہ کی مدت میں اپنے ماہانہ جسمانی سرگرمی کے اہداف پورے کرنے کے بعد ویریل ڈیوائس پر 100 فیصد تک کیش بیک حاصل کرنے کے مجاز ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا ڈسکاؤنٹ صرف آئی جی آئی لائف وائٹیلیٹی کے ممبرز کے لیے دستیاب ہے۔ آپ دل کی دھڑکن کو ٹریک کرنے کے لیے اپنی ڈیوائس استعمال کر سکتے ہیں: تاہم، کیش بیک صرف بذریعہ پروگرام خریدی کی ویریل ڈیوائس پر ہی دستیاب ہے۔



IGI لائف وائیلٹی میں شریک بننا / بنکافل ممبر کا سفر



* شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

آئی جی آئی لائف ونڈو تکفل آپریٹرز زندگی پریمیر تکافل سیونگ پلان کے لیے مجتمع فوائد

IGI لائف وائٹیلیٹی WTO مجتمع ممبر شپ کی ہر پانچویں سالگرہ کے موقع پر، ایک اضافی رقم (زرتعاون کا %) اس کی شرائط و ضوابط کے تحت بطور وائٹیلیٹی مجتمع فائدہ اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ میں ادا کیا جاتا ہے۔ مجتمع فائدہ، جو کہ IGI لائف وائٹیلیٹی کی موجودہ کیفیت اور بنیادی مجموعی زرتکفل کے مختلف اختیارات کی بنیاد پر سال مکمل ہونے پر واجب الادا ہوتا ہے اور پانچ سال بعد ادا کیا جاتا ہے۔

بنیادی مجموعی زرتکفل سے کیا مراد ہے؟

یہ رقم بمعہ کسی بھی دوسرے قابل اطلاق فوائد کے، ممبر شپ شریک تکفل کی وفات پر واجب الادا ہوتی ہے۔ بنیادی زرتعاون کا ملٹی پل ہوتا ہے۔ شریک تکفل ہولڈر کو درج ذیل ملٹیپلر پیش کیے جاتے ہیں:

عمر	زرتعاون کے ملٹی پل *
کم سے کم	زیادہ سے زیادہ
55 سال تک	5
60 سے 56	5
61 سے زائد	5

* دعوائے دستبرداری: مذکورہ بالا ملٹی پلز پر شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

اکاؤنٹ ویلیو سے کیا مراد ہے؟

اکاؤنٹ ویلیو سے مراد وہ رقم ہے جس کے مساوی ممبر شپ میں سرمایہ کاری کردہ حصہ ہوتا ہے۔ درج ذیل جدول IGI لائف وائٹیلیٹی مجتمع فوائد کی شرح کو ظاہر کرتا ہے:

سم کورڈ ملٹی پل	ایٹیش بروز	سلور	گولڈ	پلائنیم
				
5 to 10	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
11 to 20	0.0%	2.0%	4.0%	9.0%
21 اور اس سے زائد	0.0%	4.0%	8.0%	18.0%

پلان کے بنیادی فوائد

☆ **آئٹم ٹیکس کا فائدہ:** FBR کے قوانین کے مطابق، آئٹم ٹیکس کا فائدہ، قابل ٹیکس آمدنی کے 20 فیصد تک ٹیکس کی شرح اوسط کی شرح پر، زیادہ سے زیادہ 2 ملین روپے سالانہ کے تحت لاگو ہوتا ہے۔

☆ آپ کو سرپلس فنڈز بطور اضافی ضمنی زرتعاون زرتعاون جمع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، مزید یہ کہ ماہانہ انعامات اور وائٹیلیٹی اضافی فوائد شرائط و ضوابط کے تحت اضافی ضمنی زرتعاون کرا دیے جائیں گے۔

☆ **وفات پر فائدہ:** وفات کی صورت میں، پارٹنیشنٹ سرمایہ کاری اکاؤنٹ (شرکاء سرمایہ کاری فنڈ) میں اکاؤنٹ ویلیو یا سم کورڈ کا بھی زیادہ ہو بمعہ اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ کی مجتمع اکاؤنٹ ویلیو اور اضافی فوائد کے، جو کہ پہلے سے اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ ویلیو کے لیے واجب الادا نہ ہو، ادا کیا جائے گا۔

☆ **میعاد کی تکمیل پر فائدہ:** پارٹنیشنٹ سرمایہ کاری اکاؤنٹ کا 100 فیصد، اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ کی مجتمع فائدے اور اضافی فوائد کے ساتھ، جو کہ پہلے سے اضافی ضمنی زرتعاون کے لیے واجب الادا نہ ہو، تکمیل میعاد پر ادا کیا جائے گا۔

☆ **اضافی یونٹ کی تخصیص:** جتنا زیادہ عرصہ ممبر شپ جاری رہے گی، فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ پلان، چھٹے سال سے آغاز کرتے ہوئے اضافی یونٹ کی تخصیص کی پیشکش کرتا ہے۔ اضافی یونٹ کی تخصیص اس طرح ہوگی:

اضافی یونٹ کی تخصیص



☆ **تحفظ کی ترتیب:** زرتعاون کی ادائیگی نہ کر پانے کی صورت میں، تب بھی آپ اُس وقت تک ممبر شپ کے اہل ہوں گے جب تک کہ آپ کی شرکاء سرمایہ کاری فنڈ ویلیو یا کیش سرینڈر ویلیو آپ کی ممبر شپ کے لیے ادا کردہ چارجز کی ادائیگی کے لیے کافی ہو۔ زرتعاون کی عدم ادائیگی پر پانچ سال کی مدت کے لیے اضافی فوائد اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ میں نہیں جمع کرائیں جائیں گے۔ اضافی فوائد کی صورت میں ممبر کو چاہیے زرتعاون کی ادائیگی وقت پر کرے یا پیشگی ادائیگی کرے۔

سرپلس کی تقسیم

تکافل فنڈ کے شریک تکافل وقف (Waqf) کی شرائط و ضوابط کے تحت سرپلس کی شکل میں فنڈ کے شیئرز کے حقدار ہو سکتے ہیں۔

سرپلس استحقاق تکافل پلان کے روایتی فوائد کے علاوہ ہے۔ آئی جی آئی لائف ونڈو تکافل آپریشنز ہر سال کے اختتام پر بشمول شریعہ مشیر اور مقرر ایگزیکیوٹریل کے مطلوبہ منظوری کے ساتھ سرپلس (اگر کوئی ہے) کا حساب لگاتے ہیں۔

لازم اضافی فائدہ:

صحت افزاء: بیماری یا حادثے کی صورت میں مالی تحفظ فراہم کرتا ہے جس کی بدولت مریض کے سالانہ 250,000 روپے کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔

کون سے اضافی فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں؟

مذکورہ بالا روایتی فوائد کے علاوہ، آپ اس پلان کے تحت کئی اضافی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فوائد اور ان کی متعلقہ تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

☆ **زرتعاون کی ادائیگی میں چھوٹ۔ معذوری:** WoC: سپلیمنٹری رائیڈر کی مدت پوری ہونے تک شریک تکافل کی مستقل معذوری کی صورت میں مستقبل کے لیے زرتعاون میں چھوٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ فائدہ انفرادی پی ٹی ایف سے ادا کیا جائے گا۔

☆ **تحفظ کے اضافی فائدے:** ABP: شریک تکافل کی حادثاتی یا غیر حادثاتی وجوہات کی بنا پر واقع ہونے والی موت پر قابل ادا فوائد کو بڑھاتا ہے۔ بنیادی ممبر شپ کے تحت وفات کی صورت میں ادا کئے جانے والے کسی بھی دیگر فوائد کے ساتھ ABP سم کوڑ کی ادائیگی ایک ہی یکمشت قسط میں کی جائے گی۔ یہ فائدہ انفرادی پی ٹی ایف سے ادا کیا جائے گا۔

☆ **اکم بینیفٹ۔ وفات:** شریک تکافل کی وفات کے بعد سپلیمنٹری بینیفٹ کی منتخب کردہ میعاد کے اختتام تک ماہانہ اکم بینیفٹ فراہم کیا جائے گا۔ یہ فائدہ انفرادی پی ٹی ایف سے ادا کیا جائے گا۔

☆ **اکم بینیفٹ۔ معذوری:** شریک تکافل کی مستقل کلی معذوری کے بعد سپلیمنٹری بینیفٹ کی منتخب کردہ میعاد کے اختتام تک ماہانہ اکم بینیفٹ فراہم کیا جائے گا۔ یہ فائدہ انفرادی پی ٹی ایف سے ادا کیا جائے گا۔

☆ **حادثاتی موت کے فائدے:** ADB: شریک تکافل کی حادثاتی موت کی صورت میں یکمشت رقم کی ادا کرتا ہے۔ حج/ عمرے کے ادائیگی کے دوران ہونے والی اموات کی صورت میں ADB بینیفٹ کسی اضافی زرتعاون کے بغیر دو گنا کر دیا جائے گا۔ یہ فائدہ انفرادی پی ٹی ایف سے ادا کیا جائے گا۔

ہر اختیاری سپلیمنٹری بینیفٹ پر اضافی زرتعاون چارج کیا جائے گا۔

سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے انتخاب کی سہولیات کیا ہیں؟

آپ کو درخواست میں یونٹس کی خریداری کے لیے اپنی مرضی کے مطابق زرتعاون کی شرح تخصیص کا اظہار کرتے ہوئے، سرمایہ کاری کی ہر حکمت عملی میں، خود اپنی سرمایہ کاری کے ذرائع کے انتخاب کا موقع دیا جائے گا۔ آپ کو درج ذیل ذیلی اکاؤنٹس پیش کیے جائیں گے:

☆ **تکافل محتاط حکمت عملی:** اس میں بنیادی اثاثوں سمیت شریعہ کمپلائنٹ گورنمنٹ اور/ یا دیگر محفوظ سرمایہ کاری شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کے تحت اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔

شریعیہ کمپلائنٹ گورنمنٹ سکیورٹیز اور/ یا دیگر شریعیہ کمپلائنٹ فکسڈ انکم انویسٹمنٹ: 100 فیصد

☆ **تکافل متوازن حکمت عملی:** حکمت عملی شریعیہ کمپلائنٹ اسٹاکس، گورنمنٹ سکیورٹیز اور/ یا دیگر محفوظ سرمایہ کاریوں میں سرمایہ کاری کے امتزاج کے ذریعے کیپٹل میں اضافہ کرنے کے لیے موزوں ہے۔ بنیادی اثاثوں کا مرکب یوں ہوگا

شریعیہ کمپلائنٹ اسٹاک مارکیٹ فنڈز: 0 سے 40 فیصد

شریعیہ کمپلائنٹ گورنمنٹ سکیورٹیز اور/ یا دیگر شریعیہ کمپلائنٹ فکسڈ انکم انویسٹمنٹ: 60 سے 100 فیصد

☆ **تکافل جارحانہ حکمت عملی:** یہ حکمت عملی شریعیہ کمپلائنٹ ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے طویل المیعاد بنیاد پر پیہہ بنانے کا نپا تلا معتبر ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ بنیادی اثاثوں کا مرکب یوں ہوگا

شریعیہ کمپلائنٹ اسٹاک مارکیٹ فنڈز: 60 سے 70 فیصد

شریعیہ کمپلائنٹ گورنمنٹ سکیورٹیز اور/ یا دیگر شریعیہ کمپلائنٹ فکسڈ انکم انویسٹمنٹ: 30 سے 40 فیصد

ہر حکمت عملی کے تحت آپ کے پاس سرمایہ کاری اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسا کہ درخواست میں درج کیا گیا ہے۔ شریک تکافل سرمایہ کاری اکاؤنٹ (شرکاء سرمایہ کاری فنڈ) میں یونٹ خریدنے کے لیے زرتعاون کا جو فیصد مختص کرنے کا چاہتے ہوں، درخواست میں لازمی درج کیا جانا چاہیے۔

آپ اپنی ضروریات اور ترجیحات کے پیش نظر بے شمار دستیاب سہولیات میں سے اپنی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کا پورٹ فولیو منتخب کرتے ہوئے خود اپنی سرمایہ کاریوں کو منظم رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو مخصوص شرائط کے تحت ایک سرمایہ کاری اکاؤنٹ سے دوسرے میں منتقلی کا حق بھی حاصل ہوگا۔ براہ کرم یاد رکھیے کہ سرمایہ کاری کے ممکنہ خطرات شریک تکافل کی جانب سے برداشت کیے جائیں گے اور اصل تکمیل میعاد یا دستبرداری ویلیوز متعین کردہ اعداد و شمار سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔

اہلیت اور رکنیت کی مدت:

مجوزہ شریک تکافل کے داخلے کی کم سے کم عمر 18 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر 65 سال ہے۔ رکنیت کی کم از کم میعاد 10 سال ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 85 سال کی حد سے مشروط ہے۔

کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ زرتعاون کی حدود کیا ہیں؟

زرتعاون کی ادائیگی کے درج ذیل طریقہ کار کے لیے کم سے کم قابل قبول زرتعاون 250,000 روپے ہے:

☆ سالانہ


☆ ششماہی

☆ سہ ماہی

زرتعاون کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد نہیں ہے؛ لہذا آپ اپنے مالیاتی مقاصد کی مکمل آزادی کے ساتھ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔

زرتعاون کی شرح تخصیص سے کیا مراد ہے؟

IGI الائف WTO وائٹیلٹی، آپ کی سرمایہ کاری پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے زرتعاون کی عمدہ ترین تخصیصات میں سے ایک پیش کرتا ہے۔ اکاؤنٹ ویلیو کے لیے مختص کردہ زرتعاون کا تناسب یہ ہے:



اضافی ضمنی زرتعاون

یہ پلان ریگولر زرتعاون کا پلان ہے لیکن شریک تکافل شرکاء سرمایہ کاری فنڈ میں اضافی فنڈز بطور یکمشت زرتعاون جمع کر کے اضافی ضمنی زرتعاون جمع کروا سکتے ہیں۔ اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹس کھلائے جانے والے مجموعی زرتعاون کسی بھی وقت بنائے جاسکتے ہیں اور یہ رقم شریک تکافل شرکاء میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اضافی ضمنی زرتعاون کے لیے کم از کم ادائیگی 250,000 روپے ہے اور زیادہ سے زیادہ پر کوئی حد نہیں۔

انڈیکسیشن کی خصوصیات

اگر اس آپشن کا انتخاب کیا جاتا ہے تو، وائٹیلٹی کی سالانہ ممبرشپ کا زرتعاون اور بنیادی مجموعی زرتکافل ہر سال ممبرشپ کی سالگرہ کے موقع پر بڑھایا جائے گا۔ ممبر زرتعاون میں اضافے کو تحریری طور پر نوٹس دے کر منسوخ بھی کر سکتا ہے اور بغیر اضافے کے زرتعاون کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اگر ممبر نے کسی ممبرشپ کی سالگرہ پر اضافے کو منسوخ کرتا ہے تو وہ شمارہ سازی کی سہولت سے محروم کر دیا جائے گا۔

5 سالہ مدت کے دوران انڈیکسڈ ممبرشپ میں مجتمع فائدے کا حساب اس مدت کے دوران ادا کئے جانے والے کم سے کم زرتعاون کے ذریعے لگایا جائے گا۔

کیا کوئی فری لگ میعاد بھی ہے؟

اگر آپ بیس ممبرشپ کی متعین کردہ ممبرشپ دستاویز کے تحت فری لگ میعاد کے اندر اندر اپنی وائٹیلٹی انٹی گریٹڈ ممبرشپ کو منسوخ کرتے ہیں، تو آپ کی وائٹیلٹی ایکٹو ممبرشپ منسوخ کر دی جائے گی۔ اگر رکن فرد نے فری لگ میعاد کے دوران، کوئی بھی فعال فوائد (ایکٹیو ریوارڈز) حاصل کئے ہوں یا نہ کئے ہوں، تو ایک ماہ کی وائٹیلٹی فیس واپس کر دی جائے گی۔

کیا میں کسی بھی وقت اپنی وائٹیلٹی فعال رکنیت کو منسوخ کر سکتا / سکتی ہوں؟

آپ کسی بھی وقت اپنی وائٹیلٹی فعال رکنیت کو منسوخ کر سکتے ہیں، تاہم ایک بار رکنیت منسوخ ہونے کے بعد، آپ کو وائٹیلٹی کی رکنیت میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔

کیا میں اپنی پالیسی سے کسی بھی وقت دستبردار ہو سکتا / سکتی ہوں؟

آپ کی رکنیت نافذ العمل رہنے کے بعد آپ کسی بھی وقت اپنی اکاؤنٹ ویلیو میں موجود تمام پونٹس کو کیش کروانے کا حق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں، پونٹس کو بولی کے نرخ پر کیش کیا جائے گا اور رکنیت معطل ہو جائے گی۔ دستبرداری کی صورت میں دستبرداری کی فیس چارج کی جائے گی۔ وائٹیلٹی انٹی گریٹڈ ممبرشپ سے مکمل دستبرداری کی صورت میں، مجتمع فائدے دستبرداری کی تاریخ تک حاصل کئے جاسکتے ہیں، اور پہلے ہی سے اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائی جانے والی رقم قابل ادا نہیں ہوگی۔

کیا میں اپنی ممبرشپ سے فنڈز نکال سکتی یا سکتا ہوں؟

ذیلی اکاؤنٹ / اکاؤنٹس میں پونٹس کی محدود تعداد کو کیش کرواتے ہوئے، اکاؤنٹ ویلیو کو جزوی طور پر نکالا جاسکتا ہے۔ نکالی گئی رقم کو مستقل طور پر نکالی گئی رقم تصور کیا جاتا ہے اور اس کی دوبارہ ادائیگی نہیں کرنا ہوتی۔ جزوی طور پر نکالی گئی رقم کے باعث، وفات پر حاصل شدہ فائدے میں جزوی نکالی گئی رقم کے مساوی تخفیف ہو جائے گی۔ ہر جزوی نکالی جانے والی رقم پر پروسیدنگ فیس کا بھی اطلاق ہوگا۔ جزوی دستبرداری کی صورت میں، مجتمع فائدہ اضافی ضمنی زرتعاون اکاؤنٹ میں اُس پانچ سالہ میعاد کے لیے ادا نہیں کیا جائے گا۔

جزوی دستبرداری کے لیے رقم نکالنے کی صورت میں وفات کے فائدے کم ہو جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر:

سال	ہر سال کے اختتام پر وائیلٹیٹی اسٹیٹس	5 سال کے دوران جزوی دستبرداری	5 سال کے لیے مجتمع انعام
1 - 5	سلور	ہاں	نہیں
6 - 10	سلور	نہیں	ہاں

اس پروڈکٹ کی فیس اور چارجز کیا ہیں؟

بڈ/آفرا سپرٹڈ	شرکاء سرمایہ کاری فنڈ پیئس خریدنے پر رقم کا %5
وکالتہ الاستثمار	شریک تکافل سرمایہ کاری اکاؤنٹ (شرکاء سرمایہ کاری فنڈ) کا %0.125 ہر ماہ شروع میں ماباند وصول کی جاتی ہے
مضارب کا حصہ	انفرادی PTF (اگر کوئی ہے) کی سرمایہ کاری آمدنی کا %40 حصص
زرتکافل میں تکافل آپریٹر کی انتظامی فیس	ہر ماہ زرتکافل کا %35 (تبرع یا COI)
ایڈمنسٹریشن فیس	فی ممبر شپ پر ماہانہ 175 فیصد
وائیلٹیٹی فیس	*320 روپے ماہانہ فی فرد
سرینڈر چارجز (سالانہ)	کوئی نہیں
فنڈ منتقلی فیس	ہر بار فنڈ منتقلی پر 500 روپے
پروسیسنگ فیس	ہر بار جزوی طور پر رقم نکلوانے اور مکمل دستبرداری پر 500 روپے فیس

* شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

ویلیوز کا خاکہ

مندرجہ ذیل خاکہ ایک 35 سالہ فرد کی کیش ویلیو کو ظاہر کرتا ہے۔ سالانہ زرتعاون 500,000 روپے ہے جبکہ رکنیت کی ادائیگی کی مدت 20 سال ہے جبکہ سم کورڈ ہملٹل جبکہ سم کورڈ ہملٹل 30 ہے۔

پونٹ شرح نمو 9 فیصد

رکنیت کا سال	کیش ویلیو بمقدور اند	برونز		سلور		گولڈ		پلیٹیم
		وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	
5	1,107,627	5,090,400	1,107,627	5,138,880	1,155,607	5,187,360	1,204,087	5,308,560
10	2,958,265	5,090,400	2,958,265	5,208,079	3,075,444	5,325,759	3,193,124	5,619,958
15	5,638,830	5,639,330	5,638,830	5,855,783	5,854,783	6,072,237	6,071,237	6,613,370
20	9,493,051	9,493,051	9,493,051	9,850,492	9,850,492	10,207,934	10,207,934	11,101,538

پونٹ شرح نمو 11 فیصد

رکنیت کا سال	کیش ویلیو بمقدور اند	برونز		سلور		گولڈ		پلیٹیم
		وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	
5	1,168,493	5,090,400	1,168,493	5,138,880	1,216,473	5,187,360	1,264,953	5,308,560
10	3,290,096	5,090,400	3,290,096	5,214,665	3,413,862	5,338,931	3,538,127	5,649,594
15	6,655,235	6,655,735	6,655,235	6,898,470	6,897,470	7,141,205	7,140,205	7,748,043
20	11,933,694	11,933,694	11,933,694	12,361,624	12,361,624	12,789,554	12,789,554	13,859,380

پونٹ شرح نمو 13 فیصد

رکنیت کا سال	کیش ویلیو بمقدور اند	برونز		سلور		گولڈ		پلیٹیم
		وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	وفات کے فوائد	کیش ویلیو بمقدور اند	
5	1,232,235	5,090,400	1,232,235	5,138,880	1,280,215	5,187,360	1,328,695	5,308,560
10	3,660,786	5,090,400	3,660,786	5,221,743	3,791,629	5,353,087	3,922,973	5,681,445
15	7,866,890	7,867,390	7,866,890	8,140,365	8,139,365	8,413,341	8,412,341	9,095,780
20	15,066,543	15,066,543	15,066,543	15,581,601	15,581,601	16,096,658	16,096,658	17,384,301

دعوی دستبرداری: برائے مہربانی نوٹ کر لیں خاکے میں دکھائی جانے والی تمام رقم محض ایک تخمینہ ہیں اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔

آئی جی آئی لائف ونڈو نکافل آپریشنز کے بارے میں


IGI لائف انشورنس لمیٹڈ، جو ہیکچر گروپ کا رکن ہے، اپریل 2014 میں امریکی لائف انشورنس کمپنی (پاکستان) لمیٹڈ میں حصص کو کنٹرول کرنے کے حصول کے ساتھ لائف انشورنس کے میدان میں اپنے قدم جمائے۔ ہیکچر گروپ کی جانب سے قائم کردہ آئی جی آئی لائف پاکستان میں اپنی قسم کا واحد فیملی نکافل فراہم کرنے والا ادارہ ہے جو کہ کثیر اقلیتی ورثہ ہے، جو اب ہیکچر گروپ کے تجربے کے ساتھ مشہور کاروباری اداروں میں سے ایک ہے جس کے FMCG، دوا ساز اور پیکیجنگ سیکٹر میں معروف برانڈز کے ساتھ مشترکہ منصوبے ہیں۔

آئی جی آئی کے موجودہ پلانز میں فیملی نکافل پلانز، حادثاتی اور صحت کا نکافل، تنخواہ داروں کیلئے سہولیات شامل ہیں۔ IGI لائف ان چند کمپنیوں میں سے بھی ہے جنہوں نے 2015 میں ونڈو نکافل آپریشنز کے تحت فیملی نکافل کا آغاز کیا، جو ہمارے صارفین کو شریعہ کمپلائنٹ کے مطابق سہولیات مہیا کرتا ہے۔

وائٹیلیٹی گروپ کے بارے میں:

لوگوں کو صحت مند طرز زندگی مہیا کرنے کے عزم کے ساتھ وائٹیلیٹی گروپ اچھے نتائج کے لیے لوگوں کی بہتر صحت پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ ہم اسمارٹ ٹیکنالوجی، ڈیٹا، انعامات اور کرداری علوم (Behavioural Sciences) کے ملاپ سے انفرادی افراد اور اداروں میں صحت مند تبدیلی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وائٹیلیٹی دنیا بھر میں نکافل آپریٹرز/انشورر اور مستقبل کی سوچ رکھنے والے آجروں کے ساتھ کامیاب شراکت داری کے ذریعے عالمی نقطہ نظر رکھتی ہے۔ دنیا بھر کے 28 ممالک میں 20 ملین سے زائد لوگ وائٹیلیٹی پروگرام سے منسلک ہیں۔

آج، وائٹیلیٹی پروگرام 28 ماریٹوں میں 20 ملین سے زائد افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔



کلیم کیسے داخل کیا جائے

کلیم داخل کرنے کا طریقہ

کلیم کو داخل کرنے کا ہمارا طریقہ کار انتہائی آسان اور کسی رکاوٹ سے آزاد ہے۔ اس سلسلے میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے ممبرشپ کو داخل کرتے ہوئے مکمل معاونت حاصل کرنے کے لئے ہماری کسٹمر سمرٹیم سے services.life@IGI.COM.PK پر رابطہ کریں۔

ذیل میں مرحلہ وار طریقہ کار دیا جا رہا ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنا کلیم داخل کر سکتے ہیں۔

پہلا مرحلہ – تحریری اطلاع

کلیم آئی جی آئی لائف ونڈو نکافل آپریشنز کی ویب سائٹ آن لائن کلیم انٹی میشن پر جا کر دی گئی معلومات فراہم کر کے بغیر کسی تاخیر کے براہ راست داخل کیا جاسکتا ہے جسے کلیم ڈیپازٹمنٹ کو فوری طور پر بھیج دیا جاتا ہے

<http://igilife.com.pk/claim-intimation/>

ممبرشپ کے تحت فوائد حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی پالیسی کے مالک/دعویٰ کنندہ (جیسی بھی صورت ہو)، کی جانب سے اس کے دستخط کے ساتھ تحریری اطلاع جمع کرانے کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ تحریری اطلاع دیتے وقت ہمیشہ وقوعہ کی تاریخ، واقعہ کی وجہ اور دعویٰ کنندہ کا موجودہ پتہ اور رابطہ نمبر ضرور درج کریں۔

کلیم نقصان کی تاریخ کے 30 دنوں کے اندر داخل کیا جانا چاہیے

دوسرا مرحلہ – کلیم فارم کے ساتھ متعلقہ دستاویزات مکمل کریں

وقوعہ کی اطلاع دینے پر آئی جی آئی لائف نقصان کا ثبوت داخل کرنے کے لئے متعلقہ فارمز فراہم کر دے گا۔ جن کا انحصار واقعہ کی نوعیت پر ہوگا۔ ڈیٹھ سرٹیفکیٹ، رکنیت کے اصل کاغذات، شریک نکافل اور نامزد شریک نکافل کے شناختی کارڈ، ہسپتال ریکارڈ، پولیس رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ (صرف حادثہ کی صورت میں) یا آئی جی آئی لائف ونڈو نکافل آپریشنز کی طرف طلب کردہ دوسرے کاغذات گھمڑ فارمز کے ساتھ منسلک کئے جائیں گے۔ فارمز ہماری ویب سائٹ سے براہ راست ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

<http://igilife.com.pk/investor-relations/claim-forms/>

طبی سہولتوں کے گھمڑ کے لئے میڈیکل بلوں/رپورٹس کا انتظام اسپتال میں داخل ہونے کی صورت میں یا طبی سہولتوں سے متعلق گھمڑ کے لئے تمام میڈیکل بل (اصل) اور طبی رپورٹ (نقول)، جو کہ کو الیفا نیڈ طبی سہولت دینے والے ڈاکٹر کی طرف سے جاری کی گئی ہو، منسلک کرنا ہوگی۔

توثیق شدہ دستاویزات اصل شکل میں یا کسی سرکاری افسر/جاری کرنے والی اتھارٹی کی جانب سے مصدقہ نقول کی صورت میں جمع کرائی جاسکتی ہیں۔ دستاویزات کی اصل کاپی معائنہ کے لئے طلب کی جاسکتی ہے۔

تیسرا مرحلہ

کلیم فارم کے ساتھ مطلوب دستاویز جمع کرائیں

اصل دستاویزات اور فارمز (بارڈ کاپی) باقاعدہ ہر طرح سے مکمل، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ لازمی طور پر آئی جی آئی لائف ونڈو نکافل آپریشنز کے ہیڈ آفس کو اس نقصان کے بعد 90 دنوں

کے اندر جمع کر دیئے جائیں، جس کے لئے کلیم داخل کیا جا رہا ہے۔

چوتھا مرحلہ – سیٹلمنٹ

کوئی بھی کلیم جلد ممکن ہو آئی جی آئی لائف ونڈو نکافل آپریشنز کے اطمینان کے لئے مکمل کر لیا جائے۔ مکمل دستاویزات کی وصولی کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو کلیم کی ادائیگی کر دی جائے گی۔

نوٹ

برائے مہربانی اس امر کو یقینی بنائیں کہ شریک نکافل کی طرف سے کلیم کی صورت میں تمام دستاویزات اور فارمز آپ کی رکنیت کے اصل تجویزی فارم/سی این آئی سی پر آپ کے دستخط کے مطابق شدہ ہوں۔